

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ

میلاد رسول اور اساطین امت

محمد راحت خان قادری

بانی و ناظم اعلیٰ دارالعلوم فیضان تاج الشریف بریلی شریف

المکتب النور

شکار پور چودھری، ایرنفورس گیٹ، عزت گر، بریلی شریف

www.faizanetajushshariya.com

☆ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ☆

میلاد رسول ﷺ اور اساطین امت	نام کتاب
مودراجت خان قادریشاہجہانپوری	مرتب
مفتی محمد معین الدین خان برکاتی	پروف رینگ
شیخ الادب جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف	صفحات
۲۹	سال اشاعت
۱۴۳۷ھ مطابق ۱۹۱۵ء	ناشر
المکتب النور بریلی شریف یوپی	

PUBLISHER:

ALMAKTABUN-NOOR

Shikarpur Chudhari Near Izzatnagar
Bareilly Shareef (U.P.) India Pin:243122
Mob:+919457919474, +919058145698
E-mail: faizanetajushshariya@gmail.com
Website: www.faizanetajushshariya.com

میلاد مبارک کے موضوع پر قرآن و حدیث اور اقوال خلف و سلف پر مشتمل
ایک مختصر اور جامع رسالہ

میلاد رسول ﷺ اور اساطین امت

مودراجت خان قادری
بانی و ناظم اعلیٰ دارالعلوم فیضان تاج الشریعہ بریلی شریف

المکتب النور

شکار پور چودھری، ایم ۷ فورس گیٹ، عزت نگر، بریلی شریف

شرف انتساب

نذر عقیدت

میں اپنی اس ادنیٰ و حیرت کاوش کو اپنے مرشد و مربی وارث علوم اعلیٰ حضرت، تاج الاسلام و المسلمين، قاضی القضاۃ فی الہند، تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خان قادری از ہری دامت برکاتہم العالیہ کی نذر کرتا ہوں جن کا وجود مسعود سواد اعظم اہلسنت و جماعت کے لیے نشان امتیاز ہے، جن کا نقش قدم بھلکتی سکتی انسانیت کے لیے اس فتوؤں بھرے دور میں نشان راہ منزل ہے، جن کی شخصیت ہندو سندھ، عرب و جنم اور شرق و غرب میں مشہور و معروف اور مقبول و محترم ہے، جن کی نگاہ فیض سے میرے دل کے اندر کچھ کرگزرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اپنے مشفق اساتذہ کرام اور والدین کریمین کی نذر کرتا ہوں جن کی دعائیں اور مختیں ہر مشکل وقت میں مجھ کو آسانیاں فراہم کرتی ہیں۔

محمد راحت خاں قادری غفرلہ

مجد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری قدس سرہ.....(وفات ۱۳۷۰ھ)
صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ الشاہ امجد علی عظیمی قدس سرہ.....(وفات ۱۳۶۷ھ)
مفتی اعظم ہند حضرت علامہ الشاہ مصطفیٰ رضا قادری قدس سرہ.....(وفات ۱۳۰۲ھ)
جلالة العلم علامہ الشاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی قدس سرہ.....(وفات ۱۳۹۶ھ)
صاحب تصانیف کثیرہ علامہ عبدالحکیم اختر خان شاہجہانپوری قدس سرہ....(وفات ۱۳۰۲ھ)

غبار در اولیا و سادات

محمد راحت خاں قادری غفرلہ

رکن المکتب النور، بانی و ناظم دارالعلوم فیضان تاج الشریعہ
شکار پور چودھری، ایرفورس گیٹ، عزت گنگ، بریلی شریف

دعائیہ کلمات

نبیرہ میر عبدالواحد بلگرامی، اولاد رسول، میر سید شاہ محمد حسین میاں صاحب
دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ واحدیہ بلگرام شریف

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند
ہے ہبھی وجہ ہے کہ ابتدائے آفرینش سے اب تک برابر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کا ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آج بھی عاشقینِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کی
محفلیں سجائتے اور رچاتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مناکر
اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔

کچھ شیطان صفت انسان اس جہان میں ایسے بھی ہیں جو حضور صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں بظاہر محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن ہر اس بات
میں لجھنے اور خامیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی عظمت و بڑائی اور آپ کی شان و شوکت کا اظہار ہو۔ میلادِ مصطفیٰ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سرکار کے فضائل و مناقب اور آپ کی ولادت طیبہ کے
حوال بیان کیے جاتے ہیں تاکہ سرکار کی عظمت ہمارے دلوں میں اور پختگی کے

ساتھ بیٹھ جائے اور سرکار سے محبت میں اضافے کا سبب بنے، اس کو بھی کچھ لوگوں
نے کفر و شرک بکر بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو بہکانے کی شیطانی کوشش کی
لیکن وہ اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ گذشتہ چند سالوں سے کچھ
بدمذہب میلاد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے کے خلاف چھوٹے چھوٹے
رسائیں تقسیم کر رہے ہیں۔ عوام کی ضرورت کے اعتبار سے کوئی ایسا کام ہونا
چاہیے تھا۔

قابل مبارک باد ہیں عزیز القدر، محبٰ محترم مفتی محمد راحت خان قادری
بانی و ناظم اعلیٰ دارالعلوم فیضان تاج الشریعہ کہ جنہوں بروقت ضرورت کو سمجھا اور
مدل مختصر ایک رسالہ بنام ”میلاد رسول اور اساطین امت“ ترتیب دیا، جوان
شاء اللہ عوام و خواص کے لیے مفید ثابت ہو گا۔ موصوف ہمہ وقت دین اسلام کی
ترویج و اشاعت کے لیے کوشش رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دینی منصوبوں کو پایہ
تکمیل کو پہنچائے اور ان کو مزید دینی و قلمی خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔

سید حسین احمد واحدی بلگرامی
مقیم حال بریلی شریف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گر ارض و سما کی محفل میں لواک لاما کا شور نہ ہو
یرنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں

ایک محب جب اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے یا استتا ہے تو یہ مقام اس کے
لیے مقام اطنا ب ہوا کرتا ہے عشق و محبت کی جو آگ اس کے دل میں ہوتی ہے وہ
محبوب کا تذکرہ چھڑتے ہی بھڑک اٹھتی ہے، اسی عشق و محبت میں مست ہو کروہ
اپنے محبوب کی خوبیوں کو بیان کر کے اپنی روح و قلب کو سامان تسلیم مہیا
کرتا ہے۔ محفل میلاد رسول میں نور جسم باعث تخلیق عالم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم عشق پاک و صاف ہو کر کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، بیان ہوتا ہے
 نور و ظہور اور مججزات و کرامات کا جو وقت ولادت و رضاع اور قبل اعلان نبوت و بعد
 اعلان نبوت ظاہر ہوئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو کچھ مججزات و فضائل
 بیان کیے جاتے ہیں وہ یا تواریخیں ہوتی ہیں یا ان سے ماخوذ کہ جن کو صحابہ نے
 مجالس تابعین میں بیان فرمایا اور تابعین نے مجالس تع تابعین میں بیان کیا اس
 طرح قرآن بعد قرآن یہ ذکر ہوتا ہوا ہم تک پہنچا۔ اگر یہ ذکر مبارک منوع ہوتا تو
 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قرن اول میں ہی زبان کو اس سے بند کر
 لیتے، نہ وہ فضائل و مناقب ہم تک پہنچتے نہ ہم ان کو محافل و مجالس سجا کر بیان

کر پاتے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہم وسلم کے میلاد مبارک کو منانا یہ سرکار
 مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تنظیم اور آپ سے غایت درجہ محبت کے اظہار
 اور دل مضطرب کو سلی دینے کے لیے ہوتا ہے جو کہ شریعت مطہرہ میں مطلوب ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

- (۱) وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (البقرة ۲۳۱) اور یاد کرو
 اللہ کا احسان جو تم پر ہے۔ (کنز الایمان)
- (۲) وَإِن تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا (النحل ۱۸) اور
 اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمارنہ کر سکو گے۔ (کنز الایمان)
- (۳) يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا (النحل ۸۳) اللہ کی
 نعمت پہچانتے ہیں پھر اس سے منکر ہوتے ہیں۔ (کنز الایمان)
- (۴) وَأَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ (النحل ۱۲) اور اللہ کی نعمت کا
 شکر کرو۔ (کنز الایمان)
- (۵) أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفُراً وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ
 دَارَ الْبُوَارِ (ابراهیم ۲۸/۱۳) کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی
 نعمت ناشکری سے بدل دی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا اتارا۔ (کنز الایمان)
- مذکورہ آیات میں رب تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سید
 المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما و امام بخاری اور علامہ زرقانی وغیرہ
 نے فرمایا ہے کہ ”نعمت اللہ“ سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
 ذات گرامی ہے۔ لہذا ان آیات سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو

یاد کرنے کا ہمیں جا بجا حکم فرمایا ہے۔

(۱) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ (التوبۃ ۹/۲۸) بیشک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان۔ (کنز الایمان)

(۲) لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلوُ عَلَيْهِمْ آيَتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (آل عمران ۳/۱۶۳) بیشک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جوان پر اس کی آئینیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور ضرور اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ (کنز الایمان)

(۳) قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (المائدۃ ۵/۱) بیشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ (کنز الایمان)

(۴) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (انبیاء ۷/۲۱) اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لئے۔ (کنز الایمان)

(۵) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (الفتح ۸/۲۸) بیشک ہم نے تمہیں بھیجا حاضرو ناظر اور خوشی اور ڈر

سناتا۔ (کنز الایمان)

بنظر اختصار مذکورہ پانچ ہی آیات پر اقصار کہ جن سے معلوم چلتا ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو میلا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشیوں کے ساتھ منانے کی ترغیب عنایت فرمائی ہے۔

(۱) حضرت مطلب بن الی و داعمہ سے روایت ہے: جاءَ العباسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَهُ سَمِعَ شَيْئًا، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ مَنْ أَنَا؟ فَقَالُوا أَنَا
رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ۔ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
الْمُطَلَّبِ، أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي
خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بَيْوتًا، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَخَيْرِهِمْ
نَسْبًا۔ (الجامع للترمذی کتاب الدعوات رقم الحديث: ۳۵۳۲)

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے (اس وقت ان کی کیفیت ایسی تھی) گویا انہوں نے کچھ سن رکھا تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا: میں کون ہوں؟ سب نے عرض کیا آپ پر سلام ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا میں عبد اللہ کا بیٹا محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہوں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس مخلوق میں سے بہترین گروہ کے اندر مجھے پیدا فرمایا اور پھر اس کو دو گروہوں میں تقسیم فرمایا اور ان میں سے بہترین گروہ میں مجھے پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے

حکم سعد بعث رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الیہ قریبا
منہ فجاء علی حمار فلما دنا من المسجد قال رسول الله صلی
الله تعالیٰ علیہ وسلم قومو سید کم (مشکوہ المصابیح ۲۰۳)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بنی
قریظہ نے حضرت سعد کو انہا حکم تجویز کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان
کے پاس اطلاع پہنچی اور وہ قریب ہی تھے تو وہ دراز گوش پرسوار ہو کر حاضر ہوئے
جب دربار رسالت کے قریب پہنچ گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کو حکم دیا
کہ اپنے سردار کے لئے قیام کرو۔

(۵) عن عائشة كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا
(الفاطمة) قَامَتْ إِلَيْهِ فَاخْدَتْ بِيْدَهُ فَقَبَّلَتْهُ وَاجْلَسَتْهُ فِي
مَجْلِسِهَا. (مشکوہ المصابیح ۳۰۲)

حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی کہ جب
حضور نبی کریم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لاتے تو وہ حضور کے لئے قیام
کرتیں اور آپ کا دست مبارک لے کر اس کو بوس دیتیں اور آپ کو اپنی خاص جگہ
میں بٹھاتیں۔

(۶) كَمَا رُوِيَ أَحْمَدُ وَالْبَزارُ وَالْطَّبرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ
وَأَبُونَعِيمَ عَنِ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ وَأَنَّ آدَمَ لَمْ يُنْجِدْ فِي طِينَةِ
وَسَاحِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبُشَارَةُ عِيسَى وَرُؤْيَا

اس حصے کے قبائل بنائے اور ان میں سے بہترین قبیلہ کے اندر مجھے پیدا کیا اور پھر
اس بہترین قبیلہ کے گھر بنائے تو مجھے بہترین گھر اور نسب میں پیدا فرمایا۔

(۲) عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه
عن جده قال ولدت أنا و رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
عام الفيل. الحديث (الجامع للترمذی باب ماجاء فی میلاد النبی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رقم الحديث: ۱۵۵۱)

مطلوب بواسطہ والد اپنے دادا قیس بن مخرمه سے روایت کرتے ہیں وہ
فرماتے ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے۔

(۳) عن واشلة بن الاسقع يقول سمعت رسول الله صلی
الله تعالیٰ علیہ وسلم يقول "ان الله اصطفی کنانة من ولد اسماعیل
و اصطفی قريشا من کنانة و اصطفی من قریش بنی هاشم و
اصطفانی من بنی هاشم". (صحیح مسلم کتاب الفضائل باب
فضل نسب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رقم
الحدیث: ۵۹۳۸)

واشلة بن الاسقع سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ
 السلام کو برگزیدہ کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اولاد کنانہ کو، اور کنانہ کی
 اولاد سے قریش کو، اور قریش سے اولاد ہاشم کو، اور اولاد ہاشم سے مجھ کو۔

(۴) عن ابی سعید الخدری قال لما نزلت بنو قریظة علی

امی اللہی رأت و كذلك امهات النبیین یرین و ان ام رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رأت حین و ضعفه نور اضافت لہ قصور
الشام۔ (الخصائص الکبریٰ ص: ۳۶)

”یعنی عرباض بن ساریہ سے روایت ہے کہ تحقیق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میں خدا کا بندہ اور خاتم الانبیاء ہوں۔ اس وقت سے کہ آدم
ہنوز مٹی میں ملے ہوئے تھے اور دیکھو میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ میں دعا ہوں ابراہیم
کی اور عیسیٰ کی خوشخبری ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ اسی طرح اور انبیاء کی
ماں میں خواب دیکھتی تھیں اور میری ماں نے دیکھا کہ مجھ سے ایک نور نکلا جس سے
ملک شام کے محل نظر آنے لگے۔“

(۷) حدثنا عبد اللہ حدثني ابي ثنا ابوالنصر ثنا الفرج ثنا
لقمان بن عامر قال سمعت ابا امامه قال: قلت يا نبی الله ما كان اول
بعد امرک قال دعوة ابی ابراهیم و بشری عیسیٰ ورات امی انه
یخرج منها نور اصاءت منها قصور الشام۔ (مسند امام احمد حنبل
۲۶۲/۵)

یعنی ”فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میری والدہ نے وقت
پیدا ہونے میرے یہ دیکھا کہ ان سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے قصور شام

منور ہو گئے۔“

ذکورہ احادیث سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی
زبان مبارک سے اپنے میلاد کا تذکرہ فرمایا۔

تفسیر روح البیان میں زیر آیت کریمہ ”مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ“ (الفتح
۲۹/۲۹) یوں ہے:

(۱) ومن تعظیمه عمل المولد اذالم یکن فیه منکر (تفسیر
روح البیان ۵۶/۹) یعنی عمل مولد شریف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم
میں سے ہے جب تک اس میں شیٰ منکرنہ ہو۔

(۲) ثوبیة عتیقة ابی لهب اعتقها حین بشرته بولادته علیه
السلام وقد رئی ابو لهب بعد موته فی النوم فقيل له ما حالك
فقال فی النار الا انه خف عنی کل ليلة اثنين۔ (مواهب اللدنیة
۲۷/۱)

ثوبیہ (ابو لهب کی لوٹی) کو ابو لهب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
ولادت کی خوشی میں جو اس نے ابو لهب کو خوش خبری پہنچائی تھی آزاد کر دیا تھا۔ ابو
لهب کو اس کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا تمہارا
کیا حال ہے؟ اس (ابو لهب) نے کہا کہ دوزخ میں ہوں لیکن ہر دو شنبہ کی رات کو
میرا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔

(۳) ولا زال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده علیه

(٥) لا زال اهل الحرمين الشريفين والمصر واليمن والشام وسائر البلاد العربية من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويفرجون بقدوم هلال ربيع الأول ويلبسون بالثياب الفاخرة ويتنزيرون بانواع الزيت ويطيبون ويكتحلون ويأتون بالسرور في هذه الأيام ويدللون على الناس بما كان عندهم ويهتمون اهتماماً بليغاً على اسماع قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وينالون بذلك اجرًا جزيلاً وفوزاً عظيماً. ومما جرب عن ذلك انه وجد في تلك الأيام كثرة الخير والبركة مع السلامة والعافية وسعة الرزق وازيداد المال والأولاد ودوام الأمان والأمان في البلاد والأمسار والسكن والقرار في البيوت والدار ببركة مولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. (مولود النبي، للشيخ ابن حجر العسافى)

ہمیشہ سے اہل حرمين شریفین، (زادہما اللہ تعالیٰ شرف وعظیماً) اہل مصر ویمن وشام اور تمام ملک عرب مشرق سے مغرب تک مولود شریف کی مجلس کرتے ہیں اور ماہ ربیع الاول کے آنے کی خوشیاں مناتے ہیں اور عمدہ عمدہ فاخرہ لباس پہننے اور قسم قسم کی زینتیں روشنی اور خوشبوؤں سے کرتے اور سرمه لگاتے ہیں، خوشی اور خرمی کرتے ہوئے آتے ہیں اور لوگوں کو جو کچھ ان کے پاس ہے بذل اور بخشش کرتے ہیں اور بڑے بڑے اهتمام مولود شریف کے سنبھال میں بجالاتے ہیں اور اس سے اجر جزیل اور مراد عظیم کو حاصل کرتے ہیں اور مولود شریف کا عمل مجرب

السلام ويعملون الولائم ويتصدقون في لياليه بانواع الصدقات و يظهرون السرور ويزيدون في المبرات ويعتنون لقرابة مولده الكريم ويظهر عليهم من بر كاته كل فضل عميم. (مرجع سابق) تمام اہل اسلام ہمیشہ سے اس ماہ مبارک میں جس میں حضور رحمۃ للعالیم نے ظہور فرمایا بڑی بڑی محفلیں کرتے ہیں اور نہایت خوشی سے کھانے کھلانے اور تمام راتوں میں فقراء پر طرح طرح کے صدقات و خیرات کر کے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں اور نیکیوں میں زیادتی کرتے ہیں اور مولود شریف میں نعمت خوانی کرتے ہیں اس لیے ان پر تمام قسم کی بركتیں اور فضل ظاہر ہوتے ہیں۔

(٦) و مما جرب من خواصه انه امان في ذلك العام و بشري عاجلة بنيل البغية والمرام فرحم الله امراً اتخذ ليالي شهر مولده المبارك اعيادا ليكون اشد علة على من في قلبه مرض و عناد. (مرجع سابق)

(مولود شریف کے کرنے میں) تجربہ کیا گیا ہے کہ کرنے والے کے لیے اس سال ان کے گھر میں امن رہتا ہے اور دنیا کی تمام مرادیں اور مطلب اور حاجتیں حاصل ہونے کی خوشی ہے پس رحم کرے اللہ تعالیٰ ان پر جو مولود شریف کے مہینے کی راتوں کو عید بناتے ہیں تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت اور بعض کی بیماری ہے ان کے لیے شدت سے بیماری ہو۔

تا کہ اس پر جس کے دل میں مرض عدوات (رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اور عناد ہے سخت علت ہو۔

(۷) حضرت امام نبوی شارح صحیح مسلم کے استاذ و شیخ، حضرت شیخ الاسلام شہاب الدین ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراہیم معروف بابی شیبہ رحمہم اللہ تعالیٰ ”مولود مبارک کو ہبیت کذائیہ متزممہ موقتہ“ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

وَمِنْ أَحْسَنِ مَا ابْتَدَعَ فِي زَمَانِنَا مِنْ هَذَا الْقَبْيلَ مَا كَانَ يَفْعُلُ
بِمَدِينَةِ اربَلْ جَبْرَهَا اللَّهُ كُلُّ عَامٍ فِي الْيَوْمِ الْمُوافِقِ لِيَوْمِ مُولَدِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالْمَعْرُوفِ وَازْهَارِ الزِّينَةِ
وَالسُّرُورِ، فَإِنْ ذَلِكَ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ لَأْحَسَانِ إِلَى الْفَقَرَاءِ مُشَعِّرٌ
بِمَحْبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْظِيمِهِ وَجَلَالِهِ فِي قَلْبِ
فَاعِلِهِ، وَشَكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا مَنَّ بِهِ إِيَاجَادُ رَسُولِهِ الَّذِي أَرْسَلَهُ
رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْمُرْسَلِينَ، وَكَانَ
أوَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْمُوصلِ الشَّيْخُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَلَأُ احْدُ
الصَّالِحِينَ الْمَسْهُورِينَ، وَبِهِ اقْدَى فِي ذَلِكَ صَاحِبُ اربَلْ وَغَيْرُهُ
رَحْمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى . (الباعثُ عَلَى انْكَارِ الْبَدْعِ وَالْحَوَادِثِ ص: ۱۱)

نہایت نیک کاموں میں سے ایک بات یہ ہے جو ہمارے زمانے میں پیدا ہوئی ہے، جو خاص طور پر شہر اربل میں کی جاتی ہے۔ نیک کرے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہر سال آج کے دن جو موافق اس دن سے ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

ہے جوان دنوں میں کیا جاتا ہے۔ مال میں کثرت اور برکت میں سلامتی اور عافیت کے اور کشادگی رزق اور زیادتی مال و اولاد کی اور ہمیشہ رہتا ہے امن و امان اس ملک یا شہروں میں اور مولود شریف کی برکت سے گھروں میں سکون و قرار ہوتا ہے۔

(۲) ولازال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده صلی الله عليه وسلم ويعملون الولائم ويتصدقون في لياليه بـ انواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون في المبرات ويعتنون لقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من برkatoh كل فضل عميم وما جرب من خواصه أنه أمان في ذلك العام وبشرى عاجل بنيل البغية والمرام فرحم الله امراً اتخذ ليالي شهر مولده المبارك اعياداً ليكون اشد علة على من في قلبه مرض وعناد . (ما ثبت بالسنة ص: ۹)

اور اہل اسلام ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے میں محفل کرتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، اس مہینے کی راتوں میں طرح طرح کے سدقات کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اچھے اچھے کاروبار نیک میں زیادتی پکڑتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مولود شریف پڑھتے ہیں، ان پر ہر ایک قسم کے فضل عمیم کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں اور مولود شریف کی مجرب خاصیت یہ ہے کہ اس سال بھر میں امن و امان ہے اور حاجت روائی اور مطلب برآری کی بڑی بشارت ہے۔ پس اس شخص پر حرم کرے جو مولد کے مہینہ کی راتوں کو عید بنائے

یعنی یہ ماہ (ربیع الاول) ایسا ہے کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہر سال (میلاد رسول کے موقع پر) خوشی و کرام طاہر کیا کریں۔

(۱۰) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں: ”کنت اصنع فی ایام المولد طعاماً صلة بالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلم یفتح لی فی سنة من السنین شئ اصنع به طعاماً فلم اجد الا حمضا مقلیا فقسمته بین الناس فرأیته صلی اللہ علیہ وسلم وبین يديه هذه الحمض مبهجا بشاشاً“۔ (درثمين في مبشرات النبي الأمين ص: ۸)

یعنی میں ایام مولد شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیاز کانگر کیا کرتا تھا ایک سال بھنے ہوئے چنوں کے سوا کچھ میسر نہ ہوا، میں نے لوگوں میں وہی پنچ تقسیم کر دیے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا اور دیکھا کہ وہی پنچ سرکار کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور سرکار شادو مسرور ہیں۔

(۱۱) کنت قبل ذلک بمکة المعظمة في مولد النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی یوم ولادته والناس یصلون علی النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ویدکرون ارهاصاته التي ظهرت فی ولادته و مشاهده (قبل بعثته صلی اللہ علیہ وسلم) فرأیت انوارا سطعت دفعۃ واحدة لا اقول انی ادرکتها ببصیر الجسد ولا أقول ببصیر الروح فقظ اللہ اعلم کیف کان الامر بین هذا او ذاک

کی پیدائش کا دن ہے۔ صدقات سے، نیکی اور خدا کی فرماں برداری، زینت اور خوشی سے اور اس میں فقر اپر تقسیم طعام وغیرہ انعام سے کیا جاتا ہے، یعنی احسان کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی تعظیم اور عظمت وجلالت مولود شریف کے کرنے والے کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر کیا جاتا ہے کہ اس نے ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا جو سارے جہان اور تمام مسلمین کے لیے رحمت ہیں۔ سب سے پہلے یہ کام شہر موصل میں شیخ عمر بن محمد علیہ الرحمہ نے کیا جو سردار، صالحین، دین دار اور مشہورین میں تھے۔ پھر بادشاہ اربل (منظفر الدین) وغیرہ سلاطین نے ان کی ہی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت نازل فرمائے۔

(۸) ثم لا زال أهل الإسلام فيسائر الأقطار والمدن والكبار يحتفلون في شهر مولده ويعتنون بقراءة مولدته الكريم، ويظهر عليهم من بر كاته كل فضل عميم. ملخصاً (المولد الروى في مولد النبي ص: ۵، ۲)

یعنی پھر اہل اسلام تمام اطراف واقطار اور بڑے بڑے شہروں میں ہمیشہ میلاد شریف کی محفلین بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے اور خوب دل لگا کر پڑھتے اور ان پر میلاد مبارک کی ایسی برکتیں ظاہر ہوتیں جس سے ہر طرح کا فضل عمیم ہے۔

(۹) فانه شهر امرنا با ظهار الحبور فيه كل عام. (مجمع البحار ص: ۵۵۰)

مشغول گشتند۔ فقیر می آید، اولاً از احادیث فضائل آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مذکور می شود، بعد ازاں بذکر ولادت باسعادت و بذے از حال رضاع و حلیہ شریف و بعضی از آثار کہ دریں آوان بظهور آمد بعرض بیان می آید۔ پس برما حضر از طعام یا شیرینی فاتح خواندہ تقسیم آں بحاضرین مجلس می شود۔ (الدر منظم فی بیان حکم مولدا النبي الاعظيم ص: ۱۰۲)

یعنی پورے سال میں فقیر کے گھر دو مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ پہلی مجلس عاشورہ یا اس سے ایک دو دن پہلے تقریباً چار پانچ سو، بلکہ تقریباً ہزار یا اس سے بھی زائد لوگ جمع ہوتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فقیر آکر بیٹھتا ہے اور حضرات حسین کریمین کی جو فضیلتیں صحیح حدیث میں وارد ہوئی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ اور ان بزرگوں کی شان میں کوچھ احادیث و اخبار میں آیا ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ختم قرآن اور پنج آیت پڑھ کر جو کچھ موجود ہوتا ہے اس پر فاتحہ دی جاتی ہے۔ لہذا اگر یہ چیزیں فقیر کے نزدیک جائز نہ ہوتیں تو ہرگز ان کی طرف پیش قدمی نہ کرتا۔

(دوسری مجلس) رہی مولود شریف کی مجلس تو اس کا حال یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کی بارہویں تاریخ میں وہی مذکورہ معمول کے مطابق لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن خوانی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ فقیر آتا ہے اولاً احادیث سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں اس کے بعد ولادت باسعادت، مختصر اراضیت کا حال، حلیہ مبارکہ اور بعض وہ آثار جن کا ظہور ان موقع سے ہوا تھا وہ سب بیان کیے جاتے ہیں، پھر ما حضر کھانا یا شیرینی پر فاتحہ

فتاملت تلک الأنوار فوجدتها من قبل الملائكة الموكلين بامثال هذه المشاهد وبامثال هذه المجالس ورأيت يخالط انوار الملائكة بأنوار الرحمة. (فيوض الحرمين ص: ۲۶، ۲۷) میں اس سے پہلے مکہ مععظمہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد مبارک میں تھا میلاد شریف کے روز لوگ جمع تھے اور وہ مجات بیان کر رہے تھے جو کہ ولادت مبارک کے وقت ظاہر ہوئے تھے۔ میں نے یک بارگی انوار ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا میں نہیں کہتا ان آنکھوں سے دیکھا اور نہ کہتا ہوں کہ روح کی آنکھوں سے دیکھا، فقط خدا جانے کیا امر تھا، میں نے تأمل کیا تو معلوم ہوا کہ یہ نور ان ملائکہ کا ہے جو ایسی مجالس و مشاہد پر موکل ہیں۔ میں نے دیکھا کہ انوار ملائکہ اور انوار رحمت دونوں ملے ہوئے ہیں۔

(۱۲) در تمام سال دو مجلس در خانہ فقیر منعقد می شود۔ اول کہ مردم روز عاشورہ یا یک دو روز پیش از یہ قریب چهار صد یا پانصد کس بلکہ قریب ہزار کس وزیادہ ازان فراہم می آئند و درود می خوانند بعد ازاں کہ فقیر می آیدی نشیند و ذکر فضائل حسینین کہ در حدیث شریف وارد شده در بیان می آمد و آس چہ در احادیث و اخبار شہادت ایں بزرگاں وارد شده نیز بیان کردہ می شود بعد ازاں ختم قرآن و پنج آیت خواندہ بر ما حضر فاتحہ نمودہ می آید۔ پس اگر ایں چیز ہانزد فقیر جائز نہی بود اقدام برائی اصلانی کرد۔

باقي ماند مجلس مولود شریف پس حاش ایں است کہ بتاریخ دوازدهم شهر ربیع الاول ہمیں مردم کہ موافق معمول سابق فراہم شدند۔ در خواندن درود شریف

الْجَوَابُ : عِنْدِي أَنَّ أَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلَدِ الَّذِي هُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَرِوَايَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةَ فِي مَبْدَأِ اْمْرِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَقَعَ فِي مَوْلَدِهِ مِنَ الْآيَاتِ، ثُمَّ يُمَدَّلُهُمْ سِمَاطٌ يُأْكُلُونَهُ وَيُنَصَّرِّفُونَ مِنْ عَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذَالِكَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمٍ قَدِيرِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِظْهَارِ الْفَرْجِ وَالْإِسْبَيْشَارِ بِمَوْلَدِهِ الشَّرِيفِ” (حوالة: الحاوی للفتاوى ۱/۱۸۹)

میرے نزدیک میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ لوگوں کا جمع ہونا، قرآن سے جو میسر آئے اس کی تلاوت کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق میں وارد احادیث کو بیان کرنا وغیرہ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد میں واقع قرآنی آیات کو بیان کرنا، پھر حاضرین کے لئے (نیاز و نگران) دستِ خوان بچھایا جاتا ہے، جس پر وہ لوگ کھاتے ہیں اور بغیر زیادتی کے اس پر خرچ کرتے ہیں، یہ ساری باتیں بدعاں حسنے میں سے ہیں جن کا کرنے والا ان کے کرنے کے سبب ثواب پاتا ہے اس لئے کہ اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبے کی تعظیم ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد شریف سے خوش ہونا اور خوشی کا اظہار کرنا ہے۔

(۱۵) علامہ ابو ذکر یا جنبلی فرماتے ہیں:
ان ینتہض الاشراف عند سماعه قیاماً صفوفاً او جشا على

پڑھ کر مجلس میں حاضر ہونے والے لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔

(۱۳) مشہور مورخ و سیرت نگار علامہ علی ابن برهان الدین حلی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۱۰۲۲ھ تحریر فرماتے ہیں۔

وَقَدِ اسْتَخْرَجَ لَهُ الْحَافِظُ أَبْنُ حَاجِرٍ أَصْلًا مِنَ السُّنَّةِ وَكَذَا الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ وَرَدَا عَلَى الْفَاكِهَانِيِّ الْمَالِكِيِّ فِي قَوْلِهِ إِنَّ عَمَلَ الْمَوْلَدِ بِدَعَةً مَدْمُومَةً” (السیرۃ الحلبیۃ ۱/۸۴)

”حافظ الحدیث علامہ ابن حجر عسقلانی اور حافظ الحدیث علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رَحْمَهُمَا اللَّهُ نے میلاد کی اصل سنت سے ثابت کی ہے اور فاکہانی مالکی (منکر میلاد) کا اس کے اس قول میں کہ ”میلاد شریف بدعت سیئہ ہے“ روکیا۔“

(۱۴) علامہ امام سیوطی علیہ الرحمہ سے یہ سوال کیا گیا۔

”سُئِلَ عَنْ عَمَلِ الْمَوْلَدِ النَّبِيِّ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ مَا حُكِّمَ مِنْ حِيثُ الشَّرْعِ؟ وَهُلْ هُوَ مَحْمُودٌ أَوْ مَذْمُومٌ؟ وَهُلْ يُثَابُ فَاعِلُهُ أَوْ لَا؟“

رنج الاول کے مہینے میں میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منانے کے بارے میں پوچھا گیا کہ شریعت اسلامی میں اس کا کیا حکم ہے، آیا میلاد منانا قابل تعریف ہے یا مذموم ہے؟ اور میلاد منانے والے کو ثواب ملے گا یا نہیں؟

تو آپ نے اس کا جواب ان الفاظ میں عنایت فرمایا:

الرکب۔ (طرب الکرام ص: ۹)
یعنی "حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیان ولادت کے آداب میں ہے

کہ صفت اشراف کھڑے ہوں یا سوار"۔

ذکورہ آثار اور اقوال خلف و سلف سے یہ ثابت ہوا کہ سرکار کا میلاد مبارک منانا صحابہ تا بعین بلکہ تمام مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مبارک منانا اللہ رب العزت کی سنت، خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بلکہ سارے انبیاء کے کرام کی سنت ہے۔ یہ وہی ذات بالا صفات ہی تو ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب ہمارے ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا، جہاں مجھے یاد کیا جائے گا تمہارا بھی چرچا ہو گا بے تمہاری یاد کے ایمان ہرگز پورا نہ ہو گا۔ آسمانوں کے طبقات اور زمینوں کے تمام پر道ے تمہارے ہی نامِ نامی سے گونجیں گے، موزن اذانوں میں اور خطباً وذاکرین اپنی مجالس و مخالف میں، واعظین منابر پر، طلباء مدرسین مدارس میں اور قلم کارو مصنفین اپنی نگارشات و تصانیف میں ہمارے ذکر کے ساتھ تمہیں یاد کریں گے، میں آسمانی کتابیں نازل کروں گا ان میں تمہاری میلاد کے ذکر کے ساتھ تمہاری مدح و ستائش اور جمال صورت و کمال سیرت ایسی توضیح سے بیان کروں گا کہ سننے والوں کے دل بے اختیار تمہاری جانب بجھک جائیں گے اور وہ آپ کے ایسے گردیدہ ہو جائیں گے کہ ایک عالم اگر تمہارا دشمن ہو کر تمہاری عظمت شان کو گھٹانا چاہے یا تمہارے فضائل و کمالات کو مٹانا چاہے وہ کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ اسی وعدے کا نتیجہ ہے کہ یہود و نصاریٰ صد بابر س سے اپنی کتابوں سے ان کا ذکر نکالنے کے لیے کوشش ہیں

اور چاند پر خاک ڈالنے کی ناکام کوشش میں لگے رہے لیکن اپنے غلیظ مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے آج بھی چہار دنگ عالم میں ہر سو ان کی ہی عظمت کا چرچا ہے۔ حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں نے آپ سے اپنی محبوتوں کا خراج مختلف انداز میں پیش کیا ہے اور قیام قیامت تک اپنی الفت و محبت کا اظہار کرتے رہیں گے۔ مغلل میلاد کا قیام بھی اسی جذبے کے تحت ہوتا تھا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا جو کہ مسلمان اور عاشقین مصطفیٰ کے لیے باعث خوشی ہے اور دشمنان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے پریشانی کا سبب۔ الحمد للہ! آج بھی اہل ایمان برابر مخالف میلاد مقدس سجائتے ہیں اور سرکار کی نعمتوں کے نغموں کی شیریں آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ لہذا سواد اعظم کے خلاف اگر کوئی طاقت اپنی آواز کو بلند کرنا چاہے تو وہ ہرگز مسموع نہ ہوگی۔

(۱) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اتبعوا السواد الأعظم فانه من شَدُّ شُدًّا فی النار۔ (مشکوہ المصایح باب الاعتراض ۳۰ / ۱)

یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سواد اعظم (جمہور علماء مسلمین) کی پیروی کرو جو کوئی جماعت جمہور علماء مسلمین سے دور ہوا، وہ جدا ہو ادوزخ میں۔

(۲) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهمما قال قال رسول الله صلی الله تعالى علیه وسلم ان الله لا يجمع امتی او قال امة محمد على ضلاله ويد الله على الجماعة ومن شَدُّ شُدًّا في

النار. (مشکوہ المصایب باب الأعتصام ۱ / ۳۰)

یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحقیق کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کا دست قدرت جماعت پر ہے اور جو کوئی جماعت سے الگ ہو گیا وہ دوزخ میں جا پڑا۔

(۳) عن ابی ذر قال قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. (مشکوہ المصایب باب الأعتصام ۱ / ۳۱)

یعنی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جماعت سے باشت بھر جدا ہوا تو تحقیق کہ اس نے اپنی گردان سے اسلام کی رسی کونکال دیا۔

رب تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پچی محبت عطا فرمائے اور میلا در رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، معلم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے زیادتی محبت کا سبب بنائے۔ اللهم ارزقا حب حبیبہ هذا النبی الامین الکریم علیہ وعلیٰ آلہ اکرم الصلاۃ والتسلیم۔ آمين یا رب العالمین۔

اس مجموعے کا اصل سبب محبت محترم گرامی قدیر میثم عباس قادری رضوی صاحب ہیں جنہوں نے اکابر علمائے کرام کے دس رسائل کو تحقیق و تخریج اور جدید طرز پر ترتیب دیا انہوں نے مجھ سے چند الفاظ لکھنے کے لیے فرمایا تو ان کے حکم کی تعمیل کے لیے چند کتابوں کو

سامنے رکھ کچھ لکھا اور ان کے حوالے کر دیا موصوف نے تصحیح بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ موصوف کو جزاۓ خیر عطا فرمائے۔

عالیٰ جناب امین رضا خان بریلوی نے مجھ سے اصرار کیا کہ اس میں کچھ اضافہ کر کے اس کو شائع کر دیا جائے تاکہ عوام اس سے فائدہ حاصل کرے، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس میں کچھ اضافہ کر کے پیش کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین مخلصانہ عرض ہے کہ اگر بشری تقاضے سے کہیں غلطی رہ گئی ہو تو براہ راست مجھ کو مطلع فرمائیں تاکہ شکریہ کے ساتھ اس کی تصحیح کر لی جائے۔ ان الله لا يضيع اجر المحسنين۔